


→ ۶۳۱ ux

۱۱ ۵

☞ Wiehan de Jager
☞ Lesley Koyi
☞ Samrina Sana



→ ۶۳۲



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Attribution 4.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons



☞ Samrina Sana
☞ Wiehan de Jager
☞ Lesley Koyi

→ ۶۳۳

globalstorybooks.net

Global Storybooks





نیروبی کے مصروف شہر میں گھر کی دیکھ بھال سے بہت دور ایسے لڑکوں کی ایک ٹولی رہتی تھی جن کے پاس گھر نہیں تھا۔ وہ برا آنے والے دن کو ایسے ہی گزار دیتے جیسے وہ گزرتا۔ ایک صبح ٹھنڈی سڑک پر سو کر اٹھنے کے بعد لڑکے اپنے بستر لپیٹ دیے تھے۔ سردی کو بھگانے کے لیے، انہوں نے کوڑے کی مدد سے آگ جلانی ہوئی تھی۔ لڑکوں کی ٹولی میں سے سب سے چھوٹا مگر زوے تھا۔

ପାଦ ହେ କୁଣ୍ଡଳ ରେ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ
କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ
କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ
କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ






اگر مگوزوے شکایت کرتا یا سوال اٹھاتا تو اُس کے چجا اُس کو مدرتے۔ جب مگوزوے نے سکول جانے کے لیے پوچھا تو اُس کے چجانے اُسے مدرا اور کہ تم سیکھنے کے قابل نہیں ہو۔ تین ملال یہ سب سنبھے کے بعد مگوزوے اپنے چجا کے گھر سے بھاگ گیا۔ اُس نے گلی پر رینا شروع کر دیا۔



مگوزوے سبز چھت والے گھر کے باجیچے میں بیٹھا ایک کھلنی کی کتاب پڑھ رہا تھا جو کہ اُسے سکول کی طرف سے ملی تھی۔ تلامس اُس کے پاس آکر بیٹھا۔ کھلنی کس بارے میں ہے؟ تلامس نے پوچھا؟ یہ ایک ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جو اُستاد بننا چاہتا تھا۔ مگوزوے نے جواب دیا۔ اُس لڑکے کا نام کیا ہے؟ تلامس نے پوچھا؟ اُس کا نام مگوزوے ہے، اُس نے مسکراتے ہوئے کہ۔






ایک دن مگوزوے کوڑے کی ٹوکریاں چھلان رلا تھا تو اُسے پہٹی پرانی ایک کھانی کی کتاب ملی۔ اُس نے کتاب سے دُھول جھڑی اور اُسے اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ ہر روز اُس کے بعد وہ کتاب نکالتا اور اُس پر بنی تصویریں دیکھتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے۔




اور اس طرح مگوزوے ایک نئے کمرے میں داخل ہوا جس کی چھت سبز تھی۔ وہاں اُس نے دو اور لڑکوں کے سلاتھ کمرہ بانٹا۔ اُس گھر میں کل دس بچے رہتے تھے۔ آنسی سیسی اور ان کے خاوند، تین کتے، ایک بُلی اور ایک بوڑھی بکری کے سمتی۔

ଓঁ পদ্মো নেৰু ৬০ হোৰি-

মানুষী- চাঁচি বেলা ক'ৰ ম'ন ৬০ হ' বাবি' ক'ৰ ত'ক' ক'ৰ
 ক'ৰ ত'ক' ? ল'ন থ'লা হী- জুন'ৰে অৱা ল'ন ক'ৰ ব'ল'ন' র'ত'ক'
 ইৰ'ন'ৰ ত'ক' ত'ক' ক'ৰ ক'ৰ ত'ক' ক'ৰ ত'ক' ক'ৰ ত'ক'



ত'ক' ? ১৪৭ ক'ৰ ম'ন' ব'ল'ন' ক'ৰ ত'ক' ক'ৰ ত'ক' ?
 ল'ন' ? ক'ৰ ত'ক' ? ক'ৰ ত'ক' ? ক'ৰ ত'ক' ? ক'ৰ ত'ক' ?





بہت ٹھنڈ تھی اور مگوزوے سڑک پر کھڑا بھیک ملنگ رہا۔ ایک آدمی چلتے ہوئے اُس کے پاس آیا۔ بیلو، میرا نام تلامس ہے۔ میں یہاں نزدیک ہی کام کرتا ہوں۔ ایسی جگہ جہاں تمہیں کلانے پینے کے لیے کچھ آسانی سے مل سکتا ہے آدمی نے کہا۔ اُس نے ایک پیلے گھر کی طرف اشارہ کیا جس کی چھت نیلی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم وہاں کچھ کھانا لینے جاوے گے؟ اُس نے پوچھا۔ مگوزوے نے آدمی کی طرف دیکھا اور پھر اُس گھر کی طرف دیکھا۔ شاید! اُس نے کہا، اور چلا گیا۔



مگوزوے نے اُس نئی جگہ اور سکول جانے کے بارے میں سوچا، کیا ہو اگر اُس کے چچا کی کہی بات ٹھیک نکلی اور وہ واقعی پڑھ لکھ نہ سکا؟ کیا ہوگا اگر اُس نئی جگہ پر اُسے ملار پڑی؟ وہ خوف زدہ تھا کہ شاید گلی میں رینا ہی بہتر ہے اُس نے سوچا۔

የዚህ የወጪ ተስፋ አይ-
በዚህ የወጪ ተስፋ አይ-



የዚህ የወጪ ተስፋ አይ-
በዚህ የወጪ ተስፋ አይ-





مگوزوے سڑک پر بیٹھا کتاب میں اپنی تصویر دیکھ رہا تھا۔ جب تہامس آکر اُس کے پاس بیٹھا۔ یہ کہانی کس بارے میں ہے؟ تہامس نے پوچھا۔ یہ ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جو کہ کپتان بنا مگوزوے نے جواب دیا۔ اُس لڑکے کا کیا نام ہے؟ تہامس نے اُس سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، میں پڑھ نہیں سکتا مگوزوے نے چپکے سے جواب دیا۔



جب وہ ملے، مگوزوے تہامس کو اپنی کہانی بتانے لگا۔ یہ اُس کے چچا کی کہانی تھی کہ وہ ولاد سے کیوں بھلا گا۔ تہامس زیادہ بات نہیں کرتا تھا نہ ہی اُس نے مگوزوے کو بتایا کہ اُسے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن وہ اُسے ہمیشہ غور سے سنتا۔ کچھ دیر وہ لوگ چلتے جبکہ وہ نیلی چھت والے گھر میں کھلانا کھلاتے۔